



## سوال

(48) گم شدہ چیز کا مسجد میں اعلان؟

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا کسی شخص کا مسجد میں اپنی گم شدہ چیز کی تلاش کے لئے اعلان کرنا شرعاً ناجائز ہے؟ اسی طرح کیا کوئی شخص مسجد میں تجارت کر سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص اس تاجر کو روکنا چاہے تو کیا شرعاً جائز ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

فضیلۃ الشیخ عبدالعزیز بن باز (رحمہ اللہ) نے ان سوالات کے جواب اس طرح بیان فرمائے ہیں۔

سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ مسجد میں نماز اور ذکر اللہ کے لئے بنائی گئی ہیں ایسے میں سب سے اہم ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجدوں میں ایسی فضا پیدا کی جائے جس میں مسلمان نہایت اطمینان اور سکون قلب کے ساتھ یا دالہی میں مصروف ہو سکیں۔

علاوہ ازیں مسجد کے اندر سکون اور وقار کو ہمیشہ ملحوظ رکھا جائے۔ ہر اس کام سے منع کیا جائے جس سے مسجد کے وقار اور اس کے اعلیٰ مقام میں خلل واقع ہوتا ہو۔

اس کے بعد جیسا کہ سائل نے دریافت کیا ہے کسی گم شدہ چیز کے متعلق مسجد میں اعلان کرنا شرعاً ناجائز ہے۔

ایک دفعہ حضور اکرم ﷺ نے ایک شخص کو اپنی کسی گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا اس سے کہو کہ اللہ تمہیں وہ چیز نہ لوٹائے کیونکہ مسجد میں اس غرض کے لئے نہیں بنائی گئی ہیں۔

اسی طرح مسجد میں تجارتی اعلان سے بھی گریز کیا جائے کیوں کہ یہ چیزیں مسجد کے مقام اور اس کے وقار کے شایان شان نہیں۔ مسجد خرید و فروخت کرنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ عبادت کا مقام ہے۔ اگر کوئی تجارت کرنے والے کو روکنا چاہے تو شرعاً روک سکتا ہے۔

ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب



مجلس البحث والدراسات  
محدث فتویٰ

## فتاویٰ صراط مستقیم

ص 151

محدث فتویٰ